



بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے

معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتا ہے: ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا، جس کا نام عفیر تھا اسی دوران آپ نے فرمایا: ”اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟“ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: ”بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے“ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں؟ آپ نے فرمایا: ”لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے“

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں جب کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے ان موحد بندوں کو عذاب نہ دے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو خوش خبری نہ دوں، تاکہ وہ اس فضل و کرم کو جان کر خوش ہوسکیں؟ لیکن آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا، اس خوف سے کہ میں لوگ اس پر توکل کر کے بیٹھ نہ رہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65007>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

